

س

س-۱

سالمیت: (سا-ل-میت) (ع، مٹ) پورا ہونے کی حالت، مکمل ہونا، ناقابل تقسیم وحدت
 سانگا تر وٹ: بتعلق ختم ہونا، رشتہ داری قائم نہ رہنا، امید منقطع ہونا
 سابق: (سا-بق) (ع، صف) اگلا، پہلا، گزشتہ زمانے کا
 سابقہ: (سا-ب-قہ) (ع، صف) پچھلا، پہلے کا، (۲) واسطہ، معاملہ، تعلق
 سائرا: عام دبا

ساتھ: (۱) (غ، غول) (۲) ہمراہی، خویش، فیصلہ، ساتھی، ہم سفر (۳) شہد کی مکھیوں کا جھرمٹ
 ساتھ ڈیوٹ: حمایت کرنا، امداد کرنا

ساتھ لڑاؤ: قریبی دوستوں کا وفات پا جانا، دوستوں کا چھوڑ کر چلے جانا دوستوں کا فراق
 ساتھ بھاؤ: دکھ سکھ میں دوستی بھانا

ساتھی: (متبادل، شگتی) دوست، رفیق، ہمراہی، ہم سفر، ہم نشین، ہم سبق
 ساتین: (انگ، Satin، ند) ایک قسم کا ریشمی کپڑا

ساٹو: (سر، ند) مچھلی کے شکار کھیلنے کا ایک مخصوص جال (۲) جانوروں کی ایک مہلک بیماری
 جس میں چلتے چلتے جانور گرتا ہے اور مر جاتا ہے

ساٹو ہووٹ: تیر بہدف ہونا

سائٹنی: حاشیہ کی سلائی کرنا، کناروں کی سلائی کرنا

سناج: (ہ، ند) ساز، باجا

ساجھرا: اکیلا

ساجھل: (ع، ند) (متبادل: کندھی) سمندریادریا کا کنارہ

ساخت: (قائمیت) بناوٹ، ترکیب، وضع

ساد مراد: (سر، صف) بھولا بھالا، نادان، سادہ لوح

سادا ساد مراد: سادگی پسند، سادہ مزاج، سادگی سے رہنے والا

سادا سودا: منکر المزاج، بغیر کسی غیر معمولی سچاوت کے، سادگی سے رہنے والا، بھولا بھالا

سادات: (ع، ند) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حضرت فاطمہؓ کے لپٹن سے اولاد، سید قوم

سادگی: (قائمیت) راست بازی، صاف دلی، بناوٹ اور نمائش کے بغیر

سادھ: (س) چور کی ضد، حقدار، جائز مالک، راست باز، نیک، اچھا

سادھال: مول کی سبلی (سندھ کے علاقے کی مشہور رومانی داستان جسکی ہیروئن کا نام مول تھا)

سادھو: ہندو فقیر

سادھو سنت: سادہ لوح (۲) نہایت شریف، بھولا بھالا (۳) نا اہل

سادیں کوں کیا سوادیں نال: (مثل) سادگی پسند اور سنجیدہ لوگوں کو ظاہری شان و

شوکت اور ظاہری نمود سے کیا کام

ساڈا: (سر، صف) ہمارا، اپنا

ساڈھ: نصف، ساڈھ، آدھا (یہ ایک اور دو کے سوا ہر عدد کے ساتھ لگتا ہے)

ساڈھا: (سندھی) ساڈھا، آدھا، نصف

ساڈھل: دیہاتی موٹا کپڑا

ساڈا ناں مٹھے: (مثل) ہمارا تو صرف نام ہی نام ہے باقی سب کام تو آپ ہی کا ہے (یا

کسی اور کا ہی ہے) یعنی درحقیقت داد اس شخص کو ملنی چاہئے ہم اسکے مستحق نہیں

ساڈاڑا: ملاحظہ ہو ساڈا

ساڈاڑی: (سر) ساڈاڑا کی تانیٹ

ساڈاڑے: (سر) ہمارے

ساڈاڑی: (سر، صف) ہماری، اپنی، ذاتی

ساڈاڑے: ہمارے

ساڈاڑے ست سلام بن: قرآن مجید کی ان سات آیات کی طرف اشارہ ہے جن میں سلام کا

نام آیا ہے اور جنہیں برائے ذبیحیات پڑھتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہم آپ سے چھٹکارا چاہتے ہیں

سار: (سر، مٹ) مادہ جانور کی پیشاب گاہ

سارا: (ہ، صف) کل، تمام، سب، سالم، سب کا سب

سارل: (سر، مصدر) بچھیل کرنا، پورا کرنا

سارہا: (سر، ند) خزاں کا موسم جبکہ بلیر یا بخار عموماً ہوتا ہے

ساری: سارا کی تانیٹ

ساری رات ویائی تے ہکا دھی جائی: (مثل) بہت محنت اور تکلیف کے بعد معمولی سا

مفاد حاصل ہونے پر کہتے ہیں

ساریاں: ساری کی جمع، تمام، سب کی سب، کل، سالم

ساریاں (سریاں): (سر) دھان یا چاولوں کے پودے

سارے: سب تمام

سارے داسارا: تمام کا تمام، سب کا سب، سالم پورا

ساڑ: (سندھی، ند) جلن، جھلایا (۲) ضد، خصوصیت (۳) خاکستر ہر اکھ (۴) صیغہ امر جلا دے جلاؤاں

ساڑا ہٹ: کسی چیز کو جلا بیٹھنا، کسی چیز کو نا دانستہ غلطی سے جلا بیٹھنا

ساڑا پچھاڑ: رشک و حسد

ساڑا پچال کے: جلا کر، تباہ کر کے

ساڑا پچالیا: بہت جلایا

ساڑاڑے وچٹنی: (ع) دل میں ایک حسرت چھوڑ جانا (۲) داغ مفارقت دے جانا

ساڑ سٹٹھ: جلا ڈالنا، آگ لگا دینا، ساڑ سڑپ، بغض و حسد

ساڑ کڈھٹھ: غصہ نکالنا، انتقام لینا

ساڑ گھٹھٹھ: جلا ڈالنا اپنے افعال و کردار سے، کسی کو کڑھنے پر مجبور کر دینا

ساڑ لاوٹھ: کڑھنا، افسوس کرنا، اپنے آپ کو غم میں جلاتا

ساڑ وسڑیا: حاسد

ساڑا: (سر، مذ) جلا پا، حسد، کسی کی ترقی یا خوشی پر پیچ و تاب کھانا

ساڑاں: جلاؤں

ساڑ ڈیوٹھ: جلا دینا (۲) رشک پیدا کرنا، حسرت پیدا کرنا

ساڑ لکھٹھ: حسد کرنا، رشک آنا، دل جلنا

ساڑ لہٹھ: بدلہ اترنا

ساڑٹھ: (سر، مصدر) جلاتا، خاکستر کرنا، آگ لگانا (۲) دل جلاتا، اپنے طرز عمل سے کسی کا دل جلاتا

ساڑو: (سر، صف) جلن (۲) جلانے والی (۳) حاسد (۴) جانوروں کا بخار

ساڑے: جلا پے، تنگرات، آلام، صدمات

ساڑے واسڑیا: بغض و حسد کی آگ میں جلا بھنا، پر لے درجے کا حاسد

ساڑے سڑیا: بغض و حسد

ساڑٹھ: جلائیں، جلاتے ہیں

ساز: (ف، مذ) باجا (۲) سامان (۳) گھوڑے کا سامان (۴) سازش (۵) ستانے والا، سوز کی خند

ساز باز: (ف، مذ) گٹھ جوڑ، سازش

سازش: کسی کی مخالفت میں خفیہ میل ملاپ

سازشی: (ف، صف) سازش کرنے والا (۲) سازش سے تیار شدہ یا تیار کردہ

سازگار: (ف، صف) مبارک، راس حق میں، بہتر

ساسی: ایک خانہ بدوش قبیلہ

ساسٹھ: ساسی کی تانیٹ

ساعت: (ع، مٹ) گھڑی، پل، لمحہ

ساقی: (ع، مذ) شراب پلانے والا، محبوب، معشوق

ساقی کوثر: (ع، صف) رسول ﷺ (۲) شیعوں کے نزدیک حضرت علیؑ

ساک: (سر، مذ) شادی کی وجہ سے تعلق اور رابطہ (۲) منگنی

ساکدار: (سر، مذ) رشتہ دار، قریب دار

ساکن: (سا-کن) (سر) (متبادل: ہوکن) مہانچا، سانس پھول جانا، زور زور سے سانس لینے کی آواز

ساکھ: (ہ، مٹ) اعتماد، بھروسہ، خوش معاملگی (۲) بھرم، غزت، آبرو، (۳) نسبت، رشتہ

(۴) وقت، موسم، ٹرت (۵) موسم کے نئے اترے ہوئے تازہ پھل کی سوغات

ساکھ ڈیوٹھ: رشتہ دینا

ساکھ کرٹھ: موسم کے کسی پھل کو پہلے پہل چکھنا

ساکھ مٹھٹھ: رشتے کی درخواست کرنا، رشتہ مانگنا

ساکھاں: ساکھ کی جمع، موسمی پھل، اور نئی نئی سبزیوں کے تھکے جو ایک دوسرے کو پیچھے جاتے ہیں

ساکھاں مرادوں والا: ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی آسائش کے سب سامان عطا کئے ہوں

ساکھڑا: خوشی سے، بہ آسانی، بہل، آسان

سا کے پھو کے دانگر: (ع) قوتِ لایموت

ساکرٹھ: (ع، صف) بے حرکت، ٹھہرا ہوا، قائم (۲) رہنے والا، مقیم، باشندہ (۳) وہ حرف

جس پر کوئی حرکت نہ ہو یعنی جزم ہو

ساگھر پریم: رویہ کے ایک مقام کا نام

ساگ: (سر، مذ) ساگ، سبزی ترکاری، پالک، شلغم کے پتے پتھری غرض وہ پھلیاں جنکے پتے کھائے جائیں

ساگ کو داننا: (ا، مذ) ساگو کے درخت سے نکالا جانے والا دانہ، جو عموماً ہلکی غذا کے طور پر

بیادوں کو کھلاتے ہیں

ساگگی: (سر) نقل کی ضد، اصل، بعینہ، (چوروں کی اصطلاح)، ہو، بہو، وہی اصل شے

ساگگی ڈے یا واگگی: یا اصل چیز واپس کر یا اس کا مناسب معاوضہ دے

سال: (ف، مذ) (متبادل: ورہیں) برس، سال

سال پسالی: (سا-ل-پ-سا-لی) (م ف) ہر سال، ہر برس، سال بسال

سال تھی گئے سٹھ تے عمر تھی گئی چٹ: (مثل) جب انسان ساٹھ سال کی عمر کو پہنچتا

ہے تو اسکے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں رہتے

سال پچلی دا پھیراے: (ع) دن گزرتے پتہ نہیں چلتا، سال کا گزرنہ ایسا ہے جیسا کہ چکی کا ایک چکر

سال داما ریا و نچٹھ: سال کا ضائع ہو جانا

سال گنڈھ: (سر، مٹ) سالگرہ

سالالا: (ہ، مذ) بیوی کا بھائی

سالابھٹھ: یا: نسبتی بھائی

سالانہ: (ف، صف) ہر سال

سالک: (ع، مذ) راہ سلوک پر چلنے والا، ایسا صوفی جس نے دنیا ترک نہ کی ہو

سالگرہ: (ف، مٹ) جنم دن، جنم دن کی تقریب

سالم: (ع، صف) پورا، سالم، کامل، تمام کا تمام، سلامت، محفوظ

سالن: (ہ، مذ) (متبادل: بھاجی) نان خورش، پکا ہوا گوشت یا ترکاری جو روٹی کے ساتھ کھائی جائے، شوربا

سالہوں: شادی کے موقع پر جو کپڑا دولہا اور اسکے عزیزوں کو پہنا یا جاتا ہے (۲) شبِ عروسی کی

رنگین اور پھولدار اور زینتی

سالی: (ہ، مٹ) بیوی کی بہن، خواہر زوجه

سالیان: سالی کی جمع

سالے: سالی کی جمع

سام: حضرت نوح کا بڑا بیٹا جسکی نسل سامی کہلاتی ہے (۲) ایرانی پہلوان رستم کے دادا کا نام

سام: (سر، مٹ) نیزے کی انی، لاشی پر چڑھائی جانے والی لوسے کی پتہری
 سامراج: (ہ، ند) امپریل ازم، نوآبادیات اور ماتحت سلطنتیں رکھنے کی پالیسی، شہنشاہیت
 سامری: (ع، ند) ایک یہودی جادوگر جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سونے
 چاندی کا ایک بچھڑا بنا کر بنی اسرائیل سے اسکی پرستش کرائی
 سامعین: (ع، ند) سامع کی جمع، سننے والے
 سامٹے: (سر) تابع فعل، مقابل، روبرو، آمنے سامنے، موجودگی
 سامٹے: (ساہ-منزے) سامنے، روبرو
 سامٹے آواٹ: مقابلے میں آجانا، مقابل آجانا (۲) بالمقابل آجانا
 سامٹے تھیوٹ: گستاخ ہونا، آگے آنا، سامنے ہونا، کسی غلط فہمی کو رفع کرنے کے لئے کسی سے بالمقابل ملنا
 سامٹے تھیوٹ: (ع) گستاخ ہونا، روبرو بولنا (۲) کسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے
 روبرو ہونا، افہام و تفہیم کرنا
 سامٹے دی گالھ: روبرو کا ذکر، موجودگی کا حال
 سامٹے کراٹ: (متبادل) مہاکڑی کرن (روبرو لانا
 سامی: (ع، صف) سام کی نسل کے لوگ مثلاً یہودی، عرب، شمالی افریقہ کے باشندے وغیرہ
 سامی: (سر، مٹ) گاہک، خریدار (۲) مقروض (۳) دولت مند، مالدار (۴) ایسا شخص جو
 بچا کھیلنے میں زیادہ ماہر نہ ہو اور ہارتار پھتا ہو (۵) شخص
 سامی آل کی نگر: ناقابل یقین نقصان، آنکھیں کھول دینے والا نقصان، ناقابل تلافی نقصان،
 چونکا دینے والا صدمہ
 سامی (ساہمی): (سر، مٹ) لحد، قبر کا وہ حصہ جو سامنے سے کھودنے کے بعد دائیں
 طرف کھودا جائے جس میں مردے کے جسم کو رکھا جاتا ہے، قبر کا کنارہ
 سان گمان: (ا، ند) وہم و گمان، واہمہ، خیال، امید
 سانجھ: (سر) سانجھن مصدر سے امر، محفوظ رکھ، حفاظت سے رکھ
 سانجھٹ: (سر، مصدر) سنبھال کر رکھنا، محفوظ کرنا (۲) پرورش کرنا، پالنا
 سانجھ: (سر، صف) اشتراک، حصہ داری، ساجھا
 سانجھا: (سر) مشترک
 سانجھی: ساجھی، شریک، مشترک
 سانجھی سوچ: اجتماعی سوچ، ہم خیالی
 سانجھے: (سر) سانجھا کی جمع (۲) مشترک
 سانجھے پیوکوں کوئی نہیں روندنا: (مثل) مشترک مال کے نقصان کا کسی کو دکھ نہیں ہوتا
 ساندھا: قابل برداشت حد تک (۲) سٹل، نقب لگانے کا ایک آلہ (۳) ایک قوم
 ساندھا ساندھا: تھوڑا تھوڑا، قابل برداشت
 ساندھوڑا اند (ڑا اندھ): متصل، باہم جڑا ہوا، سلسلہ وار، متبادل قطار پے ہوئے
 ساندھی: (سر، ند) نقب زن

ساندھے ساندھہرے: یکے بعد دیگرے، ساتھ ساتھ، سلسلہ وار
 ساندھ: (ہ، ند) نسل کشی کا جانور (۲) موٹا تازہ، کچیم شیم (۳) ثبوت پرست
 ساندھا: ملاحظہ ہو سانھاں
 ساندھو: (سر، صف) ہم زلف، ساڑھو، سالی کا خاوند
 ساندھوڑا اند (ڑا اندھ): ملاحظہ ہو ساندھوڑا اند، سلسلہ وار، ایک ساتھ
 ساندھو گوانڈھی تاں تروا سیر اندی: (مثل) اگر ہم زلف ہمسا یہ ہے پھر گھر کا صفایا ہے
 سانگ کلا: متبادل، ہاتھ، نیزے بازی
 سانگھی: ایک قوم
 سانویں لاویں: برابر، مساوی
 سانھ: (سر، ند) ساندھ، نسل کشی کا جانور عجازا موٹا تازہ، کچیم شیم
 سانھاں: (سر، ند) چھپکلی کی ایک قسم، سوسا کی نسل کا ایک جانور جسکی چربی نامردی اور گھٹیا
 کے مرض میں استعمال ہوتی ہے
 سانھی: (سر) ساندھ
 سانھیں (سانھے): (سر، ند) سانھ کی جمع
 سانھٹ: (ساں-ہٹ) پالنا، پرورش کرنا (۲) محفوظ کرنا، حفاظت سے رکھنا
 سانب (سانجھ): (سر) سانھن مصدر سے صیغہ امر، سنبھال کر رکھ، حفاظت میں رکھ (۲) پال، پرورش کر
 سانپا: (ساں-پا) (سر، ند) کچھوا
 سانپے: (سر، ند) سانپا کی جمع، کچھوے، خراطین
 سانپا: (ساں-چا) (ہ، ند) کسی چیز کے ڈھالنے کا خول، قالب
 سانچے وچوں کڈھٹ: ایسے موقع پر کہتے ہیں جب کوئی چیز نہایت خوبصورت اور نوک
 پلک کے اعتبار سے مناسب ہو گویا کسی قالب سے ڈھل کر نکلی ہو
 ساندھ: (سر، ند) جنگلی، جانور
 ساندھل بار: چناب اور رادی کے درمیان اوپر کا علاقہ
 ساندھی (ساہندی): (سر) سہتی، برداشت کرتی (۲) قابل برداشت
 سانسی: ایک گداگر قوم
 سانسین داٹھر: مفلوک الحال گھرانہ
 سانگ: (سر، مٹ) نیزہ، برجھی، پھالا
 سانگ: صورتیں، نقشے، سوانگ (۲) کی صورت میں
 سانگ کے ساتھ
 سانگ: کے نتیجے کے طور پر، کے صلے میں (۲) کی بدولت
 سانگ: (لوچی) تعلق، رشتہ، اتفاق
 سانگ بندی: قربت داری، رشتہ داری، چولی کا رشتہ، ازار بند کا رشتہ
 سانگ رساواٹ: سوانگ بھرتا، روپ اختیار کرنا، کھیل رچانا

ساٹنگ سنگوڑ: جنگی ترشی، کفایت شعاری، جزری، بچت، گنجائش، جنگی، اخراجات پورے کرنا
 ساٹنگ کڈھٹی: بہروپ بھرتا
 ساٹنگ کسانگ: اچھے برے ذرائع یا طریقے (۲) بے جارشتہ
 ساٹنگا: (بلوچی، مذ) رشتہ، تعلق، واسطہ، وسیلہ، ہمسائیگی، رابطہ، موقع
 ساٹنگاہنٹ: اتفاق پیدا ہونا، موقع میسر ہونا (۲) تعلق قائم ہونا، قربت داری پیدا ہونا
 ساٹنگا ترورٹ: طلاق دینا، رشتہ منقطع کرنا، امید منقطع کرنا
 ساٹنگا کرستی اٹا کھا گئی گئی: (مثل) دور اندیشی اور احتیاط کے پیش نظر قبل از وقت آنا
 گوندھ کرستانے لگی، جب روٹی پکانے کا وقت ہوا دیکھا تو آٹا کتا کھا چکا تھا، حد سے زیادہ احتیاط
 بھی اچھی نہیں
 ساٹنگا کرٹ: رشتہ کرنا، ناتا جوڑنا (۲) بچت کرنا، رعایت کرنا (۳) دور اندیشی اختیار کرنا،
 جزری کرنا
 ساٹنگی: (سر، صف) کپاس کے پھول کا خول، کپاس کے پودے کی جھڑی
 ساٹواں ناں: نسب یا وصف کے اعتبار سے پکارا جانے والا نام، کنیت
 ساٹلے: موافقات، اتفاقات
 ساٹلے: رشتے داریاں، رشتے، بہانے، حیلے، طفیل، باعث، خاطر، واسطے
 ساٹلے ترورٹ: لا تعلق ہو جانا، ہر قسم کی امید منقطع کر لینا
 ساٹلے دی بکری تے کو ساٹنگے دی منجھ: (مثل) ضرورت اور موقع کی مناسبت کے
 اعتبار سے بعض اوقات بکری غیر مناسب موقع کی بھینس سے بہتر ثابت ہوتی ہے
 ساٹلے کے ناتے، کے تعلق سے، کے رشتے سے، کی خاطر، کے لیے، کے واسطے
 ساٹواں: (ساں-واں) یک فی صد، ۱۰۰ حصہ (۲) متبادل کو بھیاں، برابر، مساوی،
 برابری کی بنیاد پر
 ساٹورا: مخاطب، اے بیچ صورت محبوب
 سانوک: (ساں-وک) (مذ) ایک اثاثہ
 سانول: (ساں-ول) محبوب، معشوق، دلبر، دلربا، بیچ صورت محبوب
 سانول سلونا: بیچ صورت محبوب، گندم گوں معشوق، کرشن جی مہاراج
 سانولا: اے محبوب، (۲) بیچ صورت
 سانولڑا: مخاطب، سانول کی تغیر
 سانویں: (ساں-وے-ں) مساوی، برابر
 سانویں ستریں: خدا نخواستہ، خدا نہ کرے
 سانویں سٹیں (سٹے): برابر، مساوی، کسی چیز کو اسکی قیمت خرید کے برابر بیچ دینا
 ساں: (سر، مذ) ایک قسم کا بگلا
 ساں: (سر) ساتھ
 ساوا: (سر، صف) ہر ہر شاداب تر و تازہ (۲) ہر چارہ (۳) نیا لے رنگ کے جانور کبھی ساوا کہا جاتا ہے

ساوا پیلاتھیوٹ: (ح) غصے سے لال پیلا ہونا
 ساوا تھیوٹ: خشک پودے کا ہرا ہونا، بیمار کا صحت یاب ہونا، تنگ دست کا خوشحالی ہونا
 ساوا سوکھا: کھاتا پیتا، خوشحال
 ساوا کچوچ: (صف) گہرا سبز، سرسبز، شاداب
 ساوا کچوچ (کچوک): (کچوک) سہرا، ہزر رنگ
 ساوا کڑپ: (صف) گہرا سبز، سرسبز، شاداب
 ساو ریاں: سرال والوں سے، سرال والوں نے
 ساو رے: (سا-رے) (سر، مذ) سرال، ساس، سرس کا گھر
 ساوڑی: سرسبز، شاداب، (سرا بیگی بعض اوقات ڈی تحفہ و تخفیف کے اظہار کے لئے اصل
 لفظ میں بڑھاتے ہیں اور بعض اوقات ڈے لہجہ اور مرغوبیت کا اظہار کیا جاتا ہے) ایک
 گھاس جسے غریب لوگ خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں
 ساوڑے: (سر) یرقان
 ساوڑی چھلا: (سر، مذ) (متبادل: بینہ و سوانی) پیر، بھوٹی، ایک سرخ رنگ کا برساتی نرم و
 نازک کینڑا جو مختلف ادویات میں کام آتا ہے عموماً ریشے علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے
 ساوڑی مناولی: آموں اور کھجوروں کے موسم میں دریایا نہر پر جا کر کپک تک منانا یعنی تفریق کے لئے جانا
 ساوڑی: (سر، مذ) سادون، ۱۵ جولائی سے ۱۵ اگست تک کا موسم، برسات کا موسم
 ساوڑی دانستانہ بندہ نہ کتا: (مثل) سادون کے ایام میں جو زمیندار زمین پر کام کرنے
 کے بجائے آرام سے گزارے وہ آدمی تو کیا کتے سے بھی بدتر ہے
 ساوڑی دے انب تے ہاڑ دے ڈنھ: (مثل) سادون کے آم کھانے کے قابل
 ہوتے ہیں جبکہ ہاڑ کے مینے میں آم کھانا اپنے خون کو جلانے کے مترادف ہے
 ساوڑی ماہ دے کابھوٹے کجگھاں پتلیاں تے ڈھڈھوٹے: (مثل) سادون کے مینے میں محنت نہ
 کرنے والے زمیندار کا پیٹ بڑھ جاتا ہے اور ننگیں سوکھ جاتی ہیں، لودہ سستی کے باعث بدصورت ہو جاتا ہے
 ساوڑی وسایا، صوبہ، رعیت خوش مقدم موبخا: (مثل) سادون کی بارشوں کے
 باعث علاقہ آباد ہو گیا ہے جسکی وجہ سے رعایا (عام لوگ) خوش ہے مگر نبرداریا مقدم اداس
 ہے کہ وہ واجبات کی وصولی کے لئے لوگوں کو تنگ نہ کر سکے گا
 ساوڑی ونچے گرا اووی براجٹ ودھاوے طرہ اووی برا: (مثل) اگر برسات کے
 موسم میں بارشیں نہ ہوں تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں کیونکہ یہ قحط سالی کا پیش خیمہ ہے اور اگر کسان
 طرہ بڑھاوے تو یہ بھی کوئی اچھی علامت نہیں کیونکہ یہ سفید پوشی اسے مٹی کے کام میں آئے گی
 ساوڑی وھاوے تے کتیں رھاوے تے پوہ پلاوے گھاٹا مول نہ آوے: (مثل) اگر کسان سادون کے مینے میں صرف ہل چلاتا رہے تاکہ زمین سے خود رو پودے ختم
 ہو جائیں اور زمین نرم ہو جائے پھر ماہ کا تک میں اس رقبے کو بووے اور پوہ کے مینے میں
 آپاشی کرتا رہے تو اسے کبھی خسارہ نہیں آسکتا
 ساوٹنی: (ہ، سر، صف) فصل خریف جس میں دھان، جوار، باجرہ، بکئی، وغیرہ اناج پیدا ہوتے ہیں